

22087 - کیا حدیث (من سعادة ابن آدم رضاه بما قضی اللہ) صحیح ہے

سوال

مندرجہ ذیل حدیث کا صحت کے اعتبار سے درجہ کیسا ہے ؟
 (اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ ترک کر دینا ابن آدم کی شقاوت و بدبختی ہے ، اور یہ بھی ابن آدم کی شقاوت و بدبختی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہو)

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے دیکھیں حدیث نمبر (2151) -

امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے (1 / 699) اور ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصحیح میں موافقت کی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری (11 / 184) میں اسے حسن قرار دیا ہے -

والله تعالى اعلم .